



## مسجد میں تھوکنے گناہ اور اس کا کفار اسے مٹی میں دبا دینا

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: ”مسجد میں تھوکنے گناہ ہے اور اس کا کفار اسے مٹی میں دبا دینا ہے“  
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

اس روایت میں ”البزاق“ اور ایک روایت میں ”البصاق“ کا لفظ ہے مسجد کے فرش یا اس کی دیواروں پر تھوکنے گناہ ہے اور ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے لہذا مسلمان کے لئے کسی بھی حال میں مسجد میں تھوکنے جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے اللہ کے گھروں کی توفیقیں ہوتی ہیں اور یہ انہیں آلودہ اور گندا کرنا ہے بلکہ انہیں ہر اس چیز سے بچانا واجب ہے جو انہیں ناپاک اور گندا کرتی ہے؛ کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کے زمرے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَنْ يُعَظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ”اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لئے بہتر ہے“ (الحج: 30) تاہم اگر وہ اپنے کپڑے یا شماغ یا رومال میں تھوکتا ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ علت باقی نہیں رہتی اگر بلا ارادہ غلطی سے تھوکا جائے تو یہ ایک غلطی ہے جس کا گناہ معاف ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر مسجد میں تھوکرے اور پھر اسے دفن کر دے کیونکہ نبی ﷺ نے مسجد میں محض تھوک کی موجودگی کو گناہ قرار دیا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح بخاری (414) اور صحیح مسلم (548) میں آئی ہے کہ آپ ﷺ کو مسجد کی دیوار پر بلغم لگا دیا گیا اور نظر آیا جس کی موجودگی آپ ﷺ پر بہت گراں گزری آپ ﷺ نے اٹھ کر اسے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا جو شخص بلا ارادہ مسجد میں تھوک بیٹھے اور پھر وہ چائے کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اس کے اس گناہ کو مٹا دے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اسے مسجد سے زائل کر دے، بایں طور کہ اگر مسجد کنکریوں والی ہے تو اسے دفن کر دے اور اگر مسجد فرش والی ہے تو پھر اس کا کفار کے لئے یہ ہے کہ اسے کھرچ ڈالے یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے اگر یہ باقی رہ گیا تو یہ ایک پاپ ہے اور جب تک باقی رہے گا وہ شخص گناہ گار ہوتا رہے گا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ فرمایا: ”میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کئے گئے ہیں میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا بھی دیکھا اور اس کے برے اعمال میں مسجد میں پڑا ہوا بلغم بھی پایا جسے دفن نہ کیا گیا ہے“ (مسلم)

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10896>